




ایک بے قرار دنیا میں قرار

مزید مطالعہ کے لیے



مزید معلومات کے لیے
QR کوڈ اسکین کریں۔



اپنی پوری مشقت سے آرام کریں اور سبت کے دن کی برکات کا تجربہ کریں۔
اگر آپ اس بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں کہ خُدا ہمیں آرام، سکون اور شفا کیسے دیتے ہیں، تو براہ کرم اس کاغذ کی پشت پر دی گئی معلومات پر ہم سے رابطہ کریں۔

خالق کی مکمل اطاعت میں رہنے کے لیے ساتویں دن آرام کرنا چاہیے۔
ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہماری پوری دنیا اس اہم دن کو بھول رہی ہے؟ کیا اس وسیع پیمانے پر بھولنے کی کوئی اور بھیانک وجہ ہے؟
یسوع مسیح (جسے عیسیٰ المسیح بھی کہا جاتا ہے) نے ہمیں ایک آنے والی عالمی طاقت کے بارے میں خبردار کیا جسے ابلیس (شیطان) ہمارے ذہنوں کو ہمارے خالق سے ہٹانے کے لیے استعمال کرے گا۔ لاکھوں لوگ چھوٹے سبت کے دن عبادت کرنے کے لیے دھوکہ کھائیں گے۔ اگر شیطان ہمیں خالق کے دن کو بھولنے پر مجبور کر سکتا ہے، تو وہ امید کرتا ہے کہ ہم خود خالق کو بھی بھول جائیں گے۔ تاہم، جب ہم سچے سبت کو مانتے ہیں، تو ہم اپنے خالق کے لیے اپنی وفاداری ظاہر کرتے ہیں اور آرام، راحت اور امن کے تحفے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔

خدا کے آرام میں داخل ہونا

حضرت موسیٰ نے لکھا ہے کہ "خُدا نے ساتویں دن کو برکت دی" (پیدائش 2:3)۔ کیا آپ تھکے ہوئے ہیں؟ سبت میں برکتیں ہیں!

میتا دوران، انڈونیشیا کی کاپی رائٹر، زیادہ کام کرنے سے مر گئی — لیکن آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ ہر ہفتے

Copyright © 2023 by Sharing Hope Publications. اس کام کو غیر تجارتی مقاصد کے لیے بغیر اجازت پرنٹ اور شیئر کیا جا سکتا ہے۔

حوالہ جات مقدس بائبل کے نظرثانی شدہ ترجمہ سے لئے گئے ہیں۔ حق اشاعت پاکستان بائبل سوسائٹی © 1970، 2010 کی اجازت سے استعمال کیا گیا۔ جملہ حقوق محفوظ ہیں۔

میتا دوران مر چکی تھی۔ ایک 24 سالہ متحرک انڈونیشین کاپی رائٹر اچانک اپنی میز پر گر گئی تھی۔ کیا ہوا تھا؟

میتا ایک اشتہاری ایجنسی میں کام کرتی تھی، جہاں توقعات زیادہ تھیں اور کام کا پوجہ بھی بہت زیادہ تھا۔ اپنی موت سے ذرا پہلے، اس نے سوشل میڈیا پر اپنی تھکن کے بارے میں تبصرہ کیا: ”آج رات، میں مسلسل آٹھویں روز دفتر کی چابیاں گھلے کر جاؤں گی۔۔۔۔۔ میری کوئی زندگی نہیں ہے۔“ وہ کیفین والے مشروب کریٹنگ ڈائینگ پر بہت زیادہ انحصار کرتی تھی، جو ریڈ بل کا ایشیائی انداز ہے۔ اس کے آن لائن اظہار خیال کی آخری سطر یہ تھی، ”کام کرنے کے 30 گھنٹے اور ابھی بھی جاری۔“ اس کے بعد وہ اپنی میز پر گر گئی اور پھر کبھی نہیں اٹھی۔

کیا ہوا؟ میتا کام کی زیادتی سے مر گئی۔ آج، ہم میں سے بہت سے لوگوں کے مصروف شیدول ہیں۔ معاشرہ ہمیں زیادہ کام کرنے، زیادہ کمانے اور زیادہ خریداری کرنے کے لئے زور دیتا ہے۔ ہم تناؤ، بے خوابی اور ذہنی کرب کا شکار ہیں۔

ہو سکتا ہے ہم میتا دوران کی طرح اپنی جان نہ لے رہے ہوں، لیکن زندگی ایک بھاری بوجھ ہوسکتی ہے۔ کیا یہی ہے جس کا ارادہ خدا نے ہمارے لئے کیا؟ وہ اطمینان دینے والا ہے۔ جب ہم خود سے زیادہ کام کرتے ہیں تو کیا ہم مطمئن محسوس کرتے ہیں؟ یقیناً نہیں!

اگر ہم تھکن سے مغلوب ہیں، تو یہ ضرور ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز بھول رہے ہیں جسے خدا چاہتا ہے کہ ہم یاد رکھیں۔ ائیے دریافت کریں کہ اس نے آرام کے بارے میں کیا کہا ہے۔

”وقفہ“ بٹن کو دبانا

خدا بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ وہ جانتا تھا کہ انسانوں کو سیل فون یا لیپ ٹاپ کمپیوٹر کی طرح اپنی جسمانی، ذہنی اور روحانی توانائی کو دوبارہ چارج کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ لہذا، حضرت موسیٰ نے خدا کا حکم درج کیا:

یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ چھ دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا۔ لیکن ساتواں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے اس میں تو کوئی کام نہ کرے (بائبل کے پہلے حصے سے، جسے تورات بھی کہا جاتا ہے: خروج 10-8:20)۔

خدا کی یہ لا تبدیل شریعت ہمیں ساتویں دن کو یاد رکھنے کو کہتی ہے۔ دنیا کی بہت سی زبانوں کے مطابق، آرام کے لئے وقف اس دن کو جسے ”سبت“ کہا جاتا ہے۔ خدا نے ہمیں اسے یاد رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بھول جانا آدم سے شروع ہو کر بنی نوع انسان کے ساتھ ایک مسلسل مسئلہ رہا ہے۔ ہمیں خدا کے احکام کو فراموش نہیں کرنا چاہئے

ہر ہفتے کا ساتواں دن وقفہ کے بٹن کو دبانا کا ایک خاص دن ہے۔

کیونکہ جب ہم اسے اور اس کے احکام کو یاد رکھیں گے تو ہم سیدھی راہ پر چلتے رہیں گے۔ لیکن سبت کیوں خاص ہے؟ خدا یوں فرماتا ہے:

کیونکہ خداوند نے چھ دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا اور ساتویں دن آرام کیا۔ اس لئے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ (خروج 11:20)

سبت کا دن ایک اہم یاد دہانی ہے کہ خدا خالق ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ چونکہ خدا تھکتا نہیں، اس لیے اسے ساتویں دن آرام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن خدا نے تھکن سے آرام نہیں کیا۔ اس نے اپنے تخلیقی کام کو روک دیا تاکہ وہ ہمارے لیے آرام کرنے کا مقدس وقت مقرر کر سکے۔

خدا نے دیکھا کہ آرام کا دن بنی نوع انسان کے لیے اچھا ہے۔ اس نے ساتویں دن کو سبت بنایا، جس کا مطلب ہے توقف یا وقفہ۔ اس طرح، ہر ہفتے کا ساتواں دن ”وقفہ“ کے بٹن کو دبانا کے لیے ایک خاص دن ہے۔ ہمیں اس کی یاد اور عبادت کرنے کے لیے پورے

دن کام اور دنیاوی سرگرمیوں سے باز رہنا چاہیے۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا اگر آپ کا باس یا آپ کا پروفیسر آپ کو مزید آرام کرنے کا حکم دے؟ پھر یہ بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسا خدا نے حکم دیا ہے! خدا کی تعریف! بے شک وہ نہایت رحیم ہے!

خدا کے دن کو مقدس رکھنا

سبت کا دن دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ایک عالمگیر مقدس دن ہے۔ یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں، بدھ متوں یا ہندوؤں کے وجود میں آنے سے بہت پہلے ایک حقیقی خالق خدا پر ایمان رکھنے والے توحید پرست مومنوں نے اسے مانا۔ درحقیقت، یہ تمام نوع انسانی کو دیا گیا تھا جب دنیا کی تخلیق ہوئی تھی۔ آدم اور حوا نے سبت کا دن یاد رکھا، اور خدا نے ہمیں بھی کبھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ہم وہ بھول جائیں جو اس نے ہمیں یاد رکھنے کے لئے کہا ہے۔

بدقسمتی سے، سبت کے دن کو اکثر بھلا دیا گیا ہے۔ نبیوں نے قدیم یہودیوں کو خبردار کیا کہ اگر وہ سبت کو بھول گئے تو خدا ان پر تباہی لائے گا۔ انہوں نے انتباہ پر دھیان نہیں دیا، اس لیے یروشلم تباہ ہو گیا، اور ان کے خاندان اسیری میں چلے گئے۔ مسیحی بھی خدا کے احکام کی مخالفت میں اپنے مقدس دن کو اتوار میں بدل کر سبت کو بھول گئے۔ مسلمان جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ ہمیں